

1. Refleksive og resiproke pronomener og adverb**Øvelse 1**

Erstatt understrekede ord med andre passende refleksive pronomener, og oversett.

- ا - بچہ خود کھانا کھا سکتا ہے -
- ب - نجمہ آپ دودھ خریدنے بازار گئی -
- پ - ڈاکٹر صاحب خود گاڑی نہیں چلاتے -
- ت - گاڑی خود بخود چلنے لگی -
- ٹ - لڑکے نے خود ہی اپنے جوئے کا تسمم باندھ لیا -

Øvelse 2

Tilføy i følgende آپس میں eller اپنے آپ - خود بخود - آپ ہی - آپ - خود setningene, og oversett.

- ا - ہم نے ایک بڑا پیزا آپس میں بانٹ کر کھایا -
- ب - کھڑکی اپنے آپ کھل گئی -
- پ - کوتا شیشے میں خود کو / اپنے آپ کو کو دیکھ کر بھونکنے لگا -
- ت - حامد خود کو / اپنے کو کو بڑا ادیب سمجھتا ہے -
- ٹ - میرے بیٹے نے خود ہی ریڈیو مرمت کیا -
- ث - طالبات آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں -

2. Denominative verb med کرنا**Øvelse 3**

Mange denominative verb danner med et substantiv og verbet کرنا. I forbundende denominative verb innledes substantivet vanligvis med کی / کا.

Hvilken postposisjon brukes med følgende denominative verb – **kā** eller **kī?** Oversett.

N.B. Det er lov å bruke en ordbok.

کی	کی		Betydning
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	انتظار کرنا	å vente
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	دیکھ بھال کرنا	å passe på
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	استعمال کرنا	å bruke
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	مدد کرنا	å hjelpe
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	کوشش کرنا	å prøve, forsøke

کا	کی		Betydning
X	<input type="checkbox"/>	بیان کرنا	å beskrive _____
X	<input type="checkbox"/>	انتظام کرنا	å arrangere, ordne _____
X	<input type="checkbox"/>	ترجمہ کرنا	å oversettte _____
X	<input type="checkbox"/>	سفر کرنا	å reise _____
X	<input type="checkbox"/>	استقبال کرنا	å ta imot, ‘welcome’ _____

Øvelse 4*Oversett følgende setninger til urdu.*

a) I fjar reiste jeg til Pakistan

ا - پچھلے سال میں نے پاکستان کا سفر کیا / کیا تھا -

b) Mormor vil sikkert passe på dine barn.

ب - نانی جی ضرور آپ کے بچوں کی دیکھ بھال کریں گے -

c) Vær så snill å beskriv din reise!

پ - مہربانی سے اپنا سفر کا بیان کیجئے -

d) Hvem har oversatt denne romanen?

ت - اس ناول کا ترجمہ کس نے کیا ہے ؟

e) Vi skal ordne en gave til Najmas fødselsdag.

ٹ - نجمہ کی سالگرہ کے لئے ہم تحفہ کا انتظام کریں گے -

f) Vi venter på våre venner.

ث - ہم اپنے دوستوں کا انتظار کر رہے / رہی ہیں -

Øvelse 5

Transitive denominative verb kan dannes med مارنا - مچانا - لینا - دینا - کرنا og andre verb. Nedenfor finnes en rekke substantiver som kan brukes for å danne denominative verb. *Hvilket/hvilke verb kan brukes med hvert enkelt substantiv?*

N.B. Det er lov å bruke en ordbok.

	کرنا	دینا	لینا	مچانا	ملنا
جواب	<input type="checkbox"/>	X	X	<input type="checkbox"/>	X
مدد	X	X	X	<input type="checkbox"/>	X
انتظار	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ترقی	X	X	X	<input type="checkbox"/>	X

	کرنا	دینا	لینا	مچانا	ملنا
گالی	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
ترجمہ	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
شور	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
تعلیم	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Øvelse 6

Oversett følgende setninger til urdu.

a) Kan du (*høflig*) hjelpe meg med dette arbeid?

ا - کیا آپ اس کام میں میری مدد کر سکتے ہیں / مجھے مدد دے سکتے ہیں؟

b) Utdannede familier gir utdanning til døtrene sine.

ب - تعلیم یافته خاندان اپنی بیٹیوں کو تعلیم دیتے ہیں / دلاتے ہیں -

c) Vær så snill å besvare mitt spørsmål!

پ - مہربانی سے میرے سوال کا جواب دیجئے -

d) Jeg oversatte øvelsen til urdu.

ت - میں نے مشق کا اُردو میں ترجمہ کیا / کیا تھا -

e) Etter et år ble hun forfremmet .

پ - ایک سال کے بعد اُسرے ترقی دے دی گئی / ترقی ملی -

Idiomatiske denominative verb**Øvelse 7**

Erstatt de understrekede urdu-ordene.

گلی میں ایک پرانا رکشہ دکھائی دیا -

گلی میں دو بوڑھی عورتیں دکھائی دیا -

گلی میں چار پولیس والے دکھائی دے -

گلی میں ایک سفید گھوڑا دکھائی دیا -

گلی میں ایک کالی بلی دکھائی دیا -

Øvelse 8

Hvordan kan vi oversette følgende setninger med کہیں...نه + konjunktiv?

ا - خبردار، کہیں تمہیں چوٹ نہ لگ جائے!

Pass på at du ikke blir skadet!

ب - کہیں ہمارے گھر پر بھی بجلی نہ گر جائے!

Jeg håper bare lynet ikke også slår ned på vårt hus!

پ - آپ کہیں ٹکٹ گھر میں نہ بھول آئے ہوں!

Bare du ikke har glemt / Du har vel ikke glemt billetten(e) hjemme!